

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے کووڈ-19 کے ردعمل میں کینیڈا کے پہلے پورے شہر کے بیک یارڈ گارڈن پروگرام کا اعلان کر دیا ہے

برامپٹن، آن (16 اپریل 2020) – گزشتہ روز، سٹی آف برامپٹن نے شہر میں خوراک کی سیکورٹی کو ممکن بنانے اور رہائشیوں کو کووڈ-19 کی ہنگامی حالت میں گھروں پر رہ کر چست رہنے کی حوصلہ افزائی فراہم کرنے کے لیے ایک نئے ماحول دوست اقدام، بیک یارڈ گارڈن پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو کرونا وائرس کے ردعمل میں اپنے ذاتی گارڈن بنانے میں معاونت فراہم کرنے کے لیے پورے شہر میں اقدامات کا آغاز کرنے والی کینیڈا کی پہلی میونسپلٹی بن گیا ہے۔

سٹی کی پارکس میٹینیننس اینڈ فورسٹری ڈویژن کے ساتھ شراکت داری میں برامپٹن کے نئے بیک یارڈ گارڈن پروگرام کی سربراہی سٹی کونسلر ڈوگ وہلینز، وارڈز 2 اور 6 کر رہے ہیں اور اس میں ضرورت کے مطابق کمیونٹی کے شراکت دار بھی شامل ہوں گے۔

جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات زیر نفاذ ہونے کے ساتھ، یہ پروگرام رہائشیوں کو اپنے گھروں میں رہ کر اناج اور جڑی بوٹیاں اگانے اور گھر میں اگائی ہوئی فصلوں کو مقامی فوڈ بینکس اور کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ضرورت مند افراد میں خوراک برابری سے تقسیم ہو، فوڈ بینکس اور تنظیموں کے مکمل کرنے کے لیے ایک فارم دستیاب کیا جائے گا۔

یہ اقدام میئر کی سوشل سپورٹ ٹاسک فورس کی خوراک کی سیکورٹی پر توجہ میں معاونت فراہم کرتا ہے اور سٹی کی ایک قابل استحکام ماحول دوست شہر بننے کی ترجیح کو مضبوط تر بناتا ہے۔

نیا بیک یارڈ گارڈن پروگرام، جس کے ذریعے رہائشی چست اور ماحول دوست رہنا جاری رکھ سکیں گے، موجودہ کمیونٹی گارڈن پروگرام کی ایک توسیع ہے۔

رہائشی BramptonGreenCity@brampton.ca پر ای میل کر کے مفت ضروری اشیاء (مٹی اور بیج) کی درخواست کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ویب سائٹ www.brampton.ca/parks پر اس حوالے سے ٹیوٹوریل اور مشورے بھی شیئر کریں گے کہ ان گارڈنز کی دیکھ بھال کیسے کرنی چاہیے۔

جیسا کہ ارتھ ڈے کا 50 واں سالانہ دن بالکل قریب ہے (بروز بدھ، 22 اپریل)، یہ رہائشیوں کے لیے شہری زراعت میں کردار ادا کرنے، کمیونٹی کے لیے خدمات انجام دینے اور برامپٹن کو ایک مزید صحت مند، مضبوط اور ماحولیاتی طور پر قابل استحکام شہر بننے میں مدد دینے کا بہترین موقع ہے۔ یہاں پر گھر میں ارتھ ڈے کو منانے کے حوالے سے چند مفید [مشورے](#) دیے گئے ہیں۔

عطیات درکار ہیں

اگر آپ ایسا کاروباری ادارہ ہیں، جو سٹی کو باغبانی کے لیے مٹی اور سبزیوں کے پودے اور بیج عطیہ کر سکتے ہیں، تو براہ کرم BramptonGreenCity@brampton.ca پر ای میل کریں۔

کرونا وائرس کی صورتحال کے دوران سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں۔

"اس عالمی وباء کے دوران اپنے رہائشیوں اور کمیونٹی کے گروپوں کو معاونت فراہم کرنا ہماری بنیادی ترجیح ہے۔ ہماری سوشل سپورٹ ٹاسک فورس برامپٹن کی زد پذیر کمیونٹیوں کو خوراک میں ضروری معاونت فراہم کرنے اور رہائشیوں کو اس کار خیر میں شامل ہونے اور اپنے عقبی صحنوں میں تازہ سبزیاں اگانے کے لیے درکار وسائل فراہم کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ برامپٹن کے رہائشیوں کی مدد سے، ہم اس پروگرام کے ذریعے 1,000 نئے بیک یارڈ گارڈنز کا آغاز کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم اپنے فوڈ بینکس پر سے دباؤ ہٹانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی چست رہ کر اپنی کمیونٹی کے فخر کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارا کمیونٹی گارڈنز پروگرام بہت کامیاب رہا ہے اور اگرچہ جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات کے نفاذ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم بہتر طور پر کمیونٹی گارڈنز چلانے کے قابل نہ ہوں، ایسے میں سب سے بہترین یہی ہے کہ ہم پروگرام کو براہ راست رہائشیوں کے پاس لے جائیں۔ یہ پروگرام تمام رہائشیوں کی باغبانی کرنے، علیحدہ رہتے ہوئے بیرونی جگہوں سے لطف اندوز ہونے اور اپنی کمیونٹی میں اپنے بزرگوں اور ضرورت مند افراد کو کچھ واپس دینے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔"

- ٹوگ وبلینز، سٹی کونسلر، وارڈز 2 اور 6 سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کو فلاور سٹی کے طور پر اچھی طرح جانا جاتا ہے اور اس مشکل وقت کے دوران، سٹی کا عملہ رہائشیوں کو گھر پر رہتے ہوئے چست رہنے میں مدد دینے کے لیے ایک بیک یارڈ گارڈنز پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے پر عزم ہے، جس کے نتیجے میں برامپٹن ایک ماحول دوست شہر کے طور پر ترقی کرے گا، جو کونسل کے اس دور کی ایک کلیدی ترجیح ہے اور یہ برامپٹن میں فوڈ سیکورٹی میں بھی بھرپور کردار ادا کرے گا۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca